

مسلمان بچوں اور بچیوں کیلئے
سادہ اردو زبان میں (مترجم)

آسان نماز

اور

چا لیس مسنون دعا میں

از مولانا عاشق الہی بلند شہری، المدنی[ؒ]

سابق استاد دارالعلوم کراچی

فہرست مضمایں

۱-	عرض مؤلف.....	۳
۲-	ایمان کا بیان.....	۵
۳-	طہارت کا بیان.....	۸
۴-	وضو کا طریقہ.....	۱۱
۵-	غسل کا طریقہ.....	۱۳
۶-	تعمیم کا بیان.....	۱۵
۷-	نماز کا بیان.....	۱۶
۸-	نماز جمعہ.....	۱۸
۹-	نماز کی نیت.....	۱۹
۱۰-	اذان.....	۲۰
۱۱-	تکبیر یا اقامۃ.....	۲۱
۱۲-	اذکار نماز.....	۲۲
۱۳-	نماز پڑھنے کا طریقہ.....	۲۹
۱۴-	مرد اور عورت کی نماز کا فرق.....	۳۳
۱۵-	نمازو ترپڑھنے کا طریقہ.....	۳۵

فہرست مضمایں

۳۶.....	۱۶۔ نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مکروہات۔
۳۷.....	۱۷۔ سجدہ سہو۔
۳۸.....	۱۸۔ نماز قصر۔
۳۹.....	۱۹۔ عبیدین کا بیان۔
۴۰.....	۲۰۔ سجدہ تلاوت۔
۴۱.....	۲۱۔ تراویح کا بیان۔
۴۲.....	۲۲۔ نماز جنازہ۔
۴۳.....	۲۳۔ چالیس مسنون دعائیں۔

عرض مؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

چند سال قبل احرق نے ایک کتاب ”آئینہ نماز“ کے نام سے لکھی تھی جس میں کسی قدر تفصیل سے نماز کے ضروری مسائل اور فضائل بیان کئے تھے اسکے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ چھوٹے بچوں کیلئے نماز سکھانے والی ایک مختصر سی کتاب ہونی چاہئے۔ جو نہایت سادہ آسان اردو زبان میں ہوا اور جو اسلامی مدارس و مکاتب نیز پرائزمری اسکولوں میں داخل نصاب کی جاسکے اس ضرورت کے پیش نظر رسالہ ہذا مرتب کیا ہے جو آئینہ نماز کا اختصار ہے جس میں اذکار نماز، ضروری مسائل، طریقہ وضو و غسل، ترکیب نماز، رکعتیں، نیتیں، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، نماز جمعہ، نماز جنازہ و عیدین وغیرہ بچوں کے سمجھانے کے طرز پر جمع کئے گئے ہیں۔ مسائل فقہ حنفی کی کتابوں سے اور احادیث مشکلوۃ شریف سے لی گئی ہیں۔ ضرورت کا احساس کرتے ہوئے آخر میں چالیس دعائیں بھی مع ترجمہ لکھ دی ہیں جو حصن حصین اور مشکلوۃ شریف سے ماخوذ ہیں۔ امید ہے کہ مکاتب و مدارس کے منتظم اور اسکولوں کے ذمہ دار حضرات اس کتاب پر کو نصاب میں داخل کر کے مستحق اجر و ثواب ہوں گے۔ و بالله التوفیق

الملتمنس

محمد عاشق اللّٰہ بلند شہری غفرلہ

شوال ۷۱۳۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

﴿ ایمان کا بیان ﴾

پیارے بچو! ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی
بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

اول یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے رسول

ہیں۔

دوسرے نماز قائم کرنا یعنی قاعدے کے مطابق پابندی سے نماز پڑھنا۔

تیسرا زکوٰۃ دینا۔

چوتھے حج کرنا۔

پانچویں رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

اللہ تنہا ہے اور بس وہی معبود ہے۔ اسکے علاوہ کوئی عبادت کے لاائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دینے اور دل سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اسی کا اقرار ہے۔

﴿کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید﴾

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ترجمہ: کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور حضرت محمد ﷺ کے رسول ہیں۔

﴿کلمہ شہادت﴾

اَشْهُدُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اسکے بندے اور رسول ہیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے جو کچھ بھی بتایا اور فرمایا سب حق ہے اس کا مانا لازم اور فرض ہے۔ آپ ﷺ نے جو غیب کی بتائی ہیں جیسے قیامت کا آنا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب ہو کر جنت یا دوزخ میں جانا۔ قبر میں عذاب یا ثواب ہونا آسمانوں پر آپ ﷺ کا معراج میں جانا وغیرہ وغیرہ سب حق ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اسکے فرشتوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اسی کو ایمان محمل اور ایمان مفصل میں بتایا ہے۔

﴿ ایمانِ محمل یہ ہے ﴾

اَمْنَتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَاءِهِ وَ صِفَاتِهِ وَ قَيْلُتُ جَمِيعَ احْكَامِهِ اقْرَأْ بِاللّٰسَانِ وَ تَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ

ترجمہ: ایمان لا یا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کئے۔

﴿ ایمانِ مفصل یہ ہے ﴾

اَمْنَتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرٌ وَ شَرٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ الْبَعْثٌ بَعْدَ الْمَوْتِ

ترجمہ: ایمان لا یا میں اللہ پر اور اسکے فرشتوں پر اور اسکی کتابوں پر اور اسکے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہا چھی اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی میں ایمان لا یا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا حضرت محمد ﷺ کو نبی و رسول تسلیم نہیں کرتے یا آپ ﷺ کو آخری نبی نہیں مانتے آپ ﷺ کے بعد کسی دوسرے کو بھی نبی سمجھتے ہیں یا جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے یا اسلامی عقیدوں کا انکار کرتے ہیں یا اسلام کے فرضوں کو نہیں مانتے یا اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے

ہیں جیسے ہندو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں یا جو لوگ اللہ کیلئے اولاد مانتے ہیں جیسے عیسائیٰ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ جو لوگ دل سے مسلمان نہیں صرف ظاہری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ کافر مشرک اور منافق کی کبھی بخشش نہ ہوگی اور یہ لوگ ہمیشہ وزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ (اللہ ہم سب کو پناہ دے)

طہارت کا بیان ﴿۱﴾

طہارت یعنی پاکی کا اسلام میں بڑا داخل ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

نماز صحیح ہونے کیلئے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔

حدیث: فرمایا آقاۓ دو جہاں ﷺ نے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔

وضو کے فرائض:

وضو میں چار فرض ہیں۔

- ۱۔ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کی لوٹک منہ دھونا۔
- ۲۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔

۳۔ چو تھائی سر کا مسح کرنا۔

۲۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔

وضو کی سنتیں:

نیت کرنا۔ ☆

شروع میں بِسْمِ اللّٰہِ پڑھنا اور پہلے تین بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ ☆

پھر تین بار کلی کرنا اور مساوک کرنا۔ ☆

پھر تین بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ☆

تین تین بار دھونا۔ ☆

سارے سر کا مسح کرنا۔ ☆

داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ ☆

لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ ☆

ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھونے پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھونے پھر سر کا مسح کرے ☆

پھر پاؤں دھونے۔ ☆

(سنن چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے)

مستحبات وضو:

قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، مل کر دھونا۔ ☆

داہنی طرف سے شروع کرنا۔ ☆

بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ ☆

دوسرے سے مدد نہ لینا۔ ☆

(مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔)

مکروہات و ضو:

نپاک جگہ وضو کرنا۔ ☆

سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ☆

پانی زیادہ بہانا۔ ☆

وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ ☆

خلاف سنت وضو کرنا۔ ☆

زور سے چھکے مارنا۔ ☆

نواقص و ضو:

ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

پاخانہ یا پیشتاب کرنا یا ہوا خارج ہونا۔ ☆

خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ ☆

منہ بھر کرتے ہونا۔ ☆

ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ ☆

نشہ میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ ☆

رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہہ مار کو ہنسنا۔ ☆

﴿وضو کا طریقہ﴾

وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ:

پاک برتن میں پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بنھو، اونچی جگہ ہوتا بہتر ہے تاکہ چھیننے نہ آئیں قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ ☆

اور آستینیں کہنیوں سے اوپر تک چڑھالو۔ پھر بسُم اللہ پڑھوا اور تین بار گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوو۔ ☆

پھر تین بار کلی کرو اور مساوک کرو۔ مساوک نہ ہوتا انگلی سے دانت مل لو۔ ☆

پھر تین بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے صاف کرو۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کے ساتھ نرم جگہ تک پانی لے جائیں۔ ☆

پھر تین مرتبہ منہ دھوو۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ سے پیشانی پر پانی ڈال کر دھوو۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں کی لوٹک منہ دھوو۔ ☆

پھر کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوو۔ پہلے داہنا ہاتھ تین بار پھر بایاں ہاتھ تین بار دھوو۔

پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح اس طرح کرو کہ دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر کھکر گدی تک لے جاؤ۔ پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کانوں کے پاس سے گزارتے کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں داخل کرو اور انگوٹھوں سے کانوں کی پشت کا مسح کرو اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرو۔

پھر تین تین مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوو۔ پہلے داہنا پاؤں پھر بایاں پاؤں دھوو۔

وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو:

اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَ حَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَهَرِينَ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اسکے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمادے۔

غسل کا طریقہ

جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے اور کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لیو۔

پھر وضو کرے جیسا نماز کیلئے وضو کرتے ہیں۔ اگر پنچتہ جگہ ہو یا تخت یا پھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی دھولیو۔ اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہا ہو تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھووے۔ غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائے اور منہ بھر کر کلی کرے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غارہ بھی کرے اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن پر مل لیو۔

اسکے بعد تین بار سر پر پانی ڈالے پھر تین بار داہنے کا ندھر پر پھر تین بار بائیں کا ندھر پر پانی ڈالے اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے۔ بال برا بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو غسل نہ ہو گا۔

مسئلہ:

اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھولیو۔ پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں۔

فرائض غسل:

فرائض غسل تین ہیں۔

- ۱۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔
- ۲۔ ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔
- ۳۔ تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا۔

غسل کی سنتیں:

غسل کی سنتیں یہ ہیں۔

- ۱۔ غسل کی نیت کرنا۔
- ۲۔ اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔
- ۳۔ پھر وضو کرنا۔
- ۴۔ بدن کو ملننا۔
- ۵۔ سارے بدن پر تین بار پانی بہانا۔

مکروہات غسل:

غسل کی مکروہات یہ ہیں۔

- ۱۔ پانی بہت زیادہ گرانا۔
- ۲۔ اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔

۳۔ ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا۔

مسئلہ: کسی کو اپنی شرم کی جگہ یارانیں یا گھٹنے دکھانا حرام ہے۔

﴿ تہمیم کا بیان ﴾

جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہوا اور پانی نہ ملے یا پانی تو ہو لیکن اسکے استعمال سے سخت بیماری ہو جانے کا خوف یا مرض بڑھ جانے یا رسی ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو یا دشمن کا خوف ہو یا سفر میں پانی ایک میل کے فاصلہ پر ہوتا ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ تہمیم کر لے۔

تہمیم کا طریقہ:

☆ تہمیم میں نیت فرض ہے یعنی اول نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کیلئے یا نماز پڑھنے کیلئے تہمیم کرتا ہوں۔

☆ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر مارے پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملے اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائے۔

☆ پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کہنیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے۔

☆ وضواور غسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں ہے اور جتنی پا کی وضواور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیم سے بھی ہو جاتی ہے اگر بیس سال بھی پانی نہ ملے تو تیم ہی کرتا رہے۔

نواقص تیم:

جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملننا اور اسکے استعمال پر قادر ہونا بھی تیم کو توڑ دیتا ہے۔

مسئلہ:

اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضواور غسل کیلئے ایک ہی تیم کافی ہے۔ وضواور غسل کی نیت کر کے الگ الگ دو مرتبہ تیم کرنا لازم نہیں۔

﴿نماز کا بیان﴾

- پیارے بچو! اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے بندوں پر رات دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن کے نام یہ ہیں۔
- ۱۔ نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔
 - ۲۔ نماز ظہر جو دھنے کے بعد پڑھی جاتے ہے۔
 - ۳۔ نماز عصر جو سورج چھپنے سے دو ڈبڑھ گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔
 - ۴۔ نماز مغرب جو سورج چھپنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔
 - ۵۔ نماز عشاء جو سورج چھپنے کے دو ڈبڑھ گھنٹہ بعد پڑھی جاتی ہے۔

حدیث:

فرمایا ہمارے پیارے رسول ﷺ نے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مرتبہ دین اسلام میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نمازی بنے بغیر ٹھیک طرح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔

حدیث:

اور فرمایا ہمارے پیارے رسول ﷺ نے کہ جس کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیسے کسی کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب جاتا رہا۔ دیکھو بچو! نماز کتنی ضروری چیز ہے نماز کبھی نہ چھوڑو۔

﴿پا نچوں نمازوں کی رکعتیں اس طرح ہیں﴾

- ۱۔ نماز فجر کی چار رکعتیں: پہلے دو سنتیں پھر دو فرض۔
- ۲۔ نماز ظہر کی بارہ رکعتیں: پہلے چار سنتیں پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل۔
- ۳۔ نماز عصر کی آٹھ رکعتیں: پہلے چار سنتیں (غیر موکدہ) پھر چار فرض۔
- ۴۔ نماز مغرب کی سات رکعتیں: پہلے تین فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل۔
- ۵۔ نماز عشاء کی سترہ رکعتیں: پہلے چار سنتیں (غیر موکدہ) پھر چار فرض پھر دو سنتیں پھر دو نفل پھر تین وتر پھر دو نفل۔

﴿ نماز جمعہ ﴾

جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ پڑھتے ہیں جس کی چودہ رکعتیں ہیں۔ پہلے چار سنۃ پھر دو فرض امام کے ساتھ پھر چار سنۃ پھر دو سنۃ پھر دونفل۔

مسئلہ:

نماز جمعہ عورتوں پر فرض نہیں وہ اسکی جگہ نماز ظہر پڑھیں۔

مسئلہ:

نماز جمعہ کیلئے جماعت ضروری ہے بلا جماعت ادا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ نماز جمعہ نہ ملے تو اسکی جگہ نماز ظہر پڑھے۔

حدیث:

فرمایا پیارے رسول ﷺ نے کہ جس شخص نے بلا عذر نماز جمعہ چھوڑ دی وہ الیٰ کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا ہوانہ مٹے گا نہ بد لے گا۔

مسئلہ:

نفل نماز کا حکم یہ ہے کہ اسکو کوئی پڑھے تو بہت ثواب پاوے اور نہ پڑھے تو گناہ نہ ہو گا مگر ثواب سے محروم ہو گا۔ غیر موکدہ سنۃوں کا بھی یہی حکم ہے۔ رکعتوں کے بیان میں جن سنۃوں کا ذکر ہوا ہے ان میں عصر کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو چار سنۃ ہیں وہ غیر موکدہ ہیں انکے علاوہ باقی سب سنۃ میں موکدہ ہیں یعنی انکی بہت تاکید آتی ہے۔ انکو ضرور پڑھو۔

ہاں مرض کی تکلیف ہو یا سفر میں بہت جلدی ہو ریل، بس، ہوائی جہاز چھوٹنے والا ہو تو موکدہ سنتیں چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔

مسئلہ:

فرض اور وتر کبھی کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمازوں تر واجب ہے جس کا مرتبہ فرضوں کے برابر ہے۔

﴿نماز کی نیت﴾

کوئی نمازنیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو نماز پڑھنی ہوا سکی نیت کرنا فرض ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے مثلاً دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت کی نماز چار رکعت فرض یا چار رکعت سنت ادا کرتا ہوں۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہو تو اس کا مقتدری ہونے کی نیت بھی کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو یہ بھی درست ہے اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں۔ اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں۔ ہم بطور نمونہ دونیتیں لکھتے ہیں باقی نمازوں کی نیت اسی طرح کر لیا کریں۔

ظہر کی چار سنتوں کی نیت:

نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز سنت ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر کا رخ میرا
کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔

ظہر کے چار فرضوں کی نیت:

نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، وقت ظہر کا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔
اگر تہا لیعنی بلا جماعت نماز پڑھتا ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے۔

مسئلہ:

پنج وقت نمازوں میں صرف فرض ہی با جماعت ادا کئے جاتے ہیں اور رمضان شریف میں نمازوں ترکیبی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔

﴿اذان﴾

فرض نمازوں کیلئے اذان دینا سنت ہے۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں:

اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

حَمْدٌ عَلَى الصَّلَاةِ . حَمْدٌ عَلَى الصَّلَاةِ

حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاحِ . حَمْدٌ عَلَى الْفَلَاحِ

اللَّهُ أَكْبَرُ . اللَّهُ أَكْبَرُ .

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ:

اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔ اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔ اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔ اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللَّد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللَّد کے سوا کوئی معبود نہیں۔
 میں گواہی دیتا ہوں کہ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اللَّد کے رسول ہیں۔
 آؤ نماز کی طرف۔ آؤ نماز کی طرف۔

آؤ کامیابی کی طرف۔ آؤ کامیابی کی طرف۔

اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔ اللَّذِبْ سے بڑا ہے۔

اللَّد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں دے کر قبلہ روکھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان پڑھی جاتی ہے حَنَى عَلَى الصَّلَاةِ کے وقت داہنی طرف کو اور حَنَى عَلَى الْفَلَاحِ کے وقت باسمیں طرف کو منہ پھیر لیتے ہیں۔

صحیح کی اذان میں حَنَى عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّن النُّوْمِ (نماز نیند سے بہتر ہے) دو مرتبہ کہا جاتا ہے۔

﴿تکبیر یا اقامت﴾

جب فرض نماز کیلئے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں، تکبیر میں حَنَى

عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد و مرتبہ قَدْقَامَتِ الصَّلُوةُ بڑھا دیا جاتا یہ لفظ تکبیر میں زیادہ ہیں جو اذان میں نہیں ہیں۔ جو شخص اذان دے اسے موذن اور جو تکبیر کہے اسے مکبر کہتے ہیں۔

﴿اذکار نماز﴾

نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبُر کہہ کر شناپڑھتے ہیں پھر تَعَوُّذ و تَسْمِيَة بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسکے بعد قرآن شریف کی کوئی سورت یا چند آیات پڑھتے ہیں۔ پھر رکوع سجود کرتے ہیں۔ کوئی نماز دور کعت سے کم نہیں ہوتی۔ آخری رکعت پر بیٹھ کر تہشید اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔

ہم پہلے وہ چیزیں اکٹھی لکھ دیتے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، پھر طریقہ نماز لکھیں گے۔ اذکار نماز یہ ہیں۔

تکبیر:

اللَّهُ أَكْبَرُ.

اللَّهُ سَبَبْ سے بڑا ہے۔

ثنا:

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے انانم، بہت برکت والا ہے۔ اور تیری بزرگی بہت برتر ہے اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔

تعوذ:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ
میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔

تسمیہ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

﴿سورة الفاتحة﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ。الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ。مِلِكِ يَوْمِ الدِّينِ。إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ。إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ。إِمْنَانَ.

فہم کی تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے روز جزا کاما لک ہے (اے اللہ) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سید ہے راستے پر چلا ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ انکے راستے پر جن پر تیرا غصہ ہوا اور نہ گمرا ہوں کے راستے پر چلا!

﴿سورة کوثر﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(اے بنی) ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے پس آپ ﷺ اپنے رب کیلئے نماز پڑھیے اور قربانی

کیجئے۔ بیشک آپ ﷺ کا دشمن ہی بنام و نشان ہو جانے والا ہے۔

﴿سورة الاخلاص﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) أَللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا

أَحَدٌ (٤)

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(اے بنی) کہدو کہو (یعنی) اللہ گانہ ہے اللہ بے نیاز ہے اس سے کوئی پیدائشیں ہو اور نہ وہ

کسی سے پیدا ہو اور کوئی اس کا بر ابر نہیں۔

﴿سورة الفلق﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (۱) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲) وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳) وَمِنْ

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (۴) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)

اللَّهُ كَنَمْ سَمَّ شَرُوعَ كَرْتَاهُوں جو بُرَاثِ امْہر بَان نَہْيَايَت رَحْمَ وَالاَہِیے۔

(اے نبی دعا میں یوں) کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آجائے اور دم کرنے والیوں کے شر سے اور گر ہوں پر اور حسد کرنے

والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آجائے۔

﴿سورة الناس﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۱) مَلِكِ النَّاسِ (۲) إِلَهِ النَّاسِ (۳) مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ

الْخَنَاسِ (۴) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۵) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۶)

اللَّهُ کَنَمْ سَمَّ شَرُوعَ کَرْتَاهُوں جو بُرَاثِ امْہر بَان نَہْيَايَت رَحْمَ وَالاَہِیے۔

(اے نبی دعا میں یوں) کہو کہ میں آدمیوں کے رب، آدمیوں کے باڈشاہ آدمیوں کے معبدوں کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جلوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔

﴿رَكُوعٌ يَعْنِي جَحْكَنَةَ كَيْ حَالَتْ كَيْ تَسْبِيح﴾

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ (تین بار)

پا کی بیان کرتا ہوں میں اپنے پور دگار بزرگ کی۔

﴿قَوْمَهٗ يَعْنِي رَكُوعٌ سَأْلُهْتَنَهْ وَقْتَ كَيْ تَسْمِيع﴾

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

اللہ نے (اس کی) سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔

﴿إِسْ قَوْمَهُ كَيْ تَحْمِيدَ﴾

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

اے ہمارے رب تیرے ہی لئے سب تعریف ہے۔

﴿سَجْدَهٗ يَعْنِي زَمِينَ پَرْ سَرْكَھَنَةَ كَيْ حَالَتْ كَيْ تَسْبِيح﴾

سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى (تین بار)

پا کی بیان کرتا ہوں میں اپنے پور دگار بر ترکی۔

﴿تَشْهِيدُ يَا التَّحْيَاتُ﴾

اَتَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّبِيَّاتُ اَسَلامٌ عَلَيْكَ اِيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَّ كَاتِهِ۔ اَسَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کیلئے ہیں سلام ہو۔ آپ ﷺ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں سلام ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

﴿دَرُودُ شَرِيفٍ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِّإِلَيْهِ مُحَمَّدٌ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الِّإِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِّإِلَيْهِ مُحَمَّدٌ كَمَا
بَارِكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الِّإِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

اے اللہ رحمت نازل فرمادی پر اور انکی آل پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر بیشک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرمادی پر اور ان کی آل پر جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر بیشک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔

﴿ درود شریف کے بعد کی دعاء ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً

مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا اپنے تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر حرم فرمادے بیٹک تو ہی بخششے والا نہایت رحم والا ہے۔

﴿ سلام ﴾

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

سلام ہو قم پر اور اللہ کی رحمت۔

﴿ نماز کے بعد کی دعا ﴾

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْأَكْرَامِ.

اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی (مل سکتی) ہے بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے۔

﴿نماز پڑھنے کا طریقہ﴾

نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ:

☆ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضوقلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کوناف کے نیچے باندھلو۔ داہنا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اسکے نیچے رہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چہنگلیا سے بائیں ہاتھ کے گٹکے کو پکڑ لواور باقی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بھی رہیں۔

☆ نماز میں اوصرہ ادھرنہ دیکھو۔ ادب سے کھڑے رہو۔ خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔
ہاتھ باندھ کر شایعی سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ آخِرَتِكَ پڑھو۔

☆ پھر تعودہ یعنی أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ۔

☆ پھر تسمیہ یعنی سُمِّ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ پڑھ کر

☆ الحمد شریف پڑھو۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے امین کہو

☆ پھر کوئی سورت یا چند آیات پڑھو

☆ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیلئے جھکو۔

☆ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، رکوع کی تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ تین یا پانچ مرتبہ پڑھو۔

☆ پھر تسمیع یعنی سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ

اور اسکے بعد تمجید یعنی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ پڑھو ☆

پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو۔ پھر
دونوں ہاتھوں کھوپھر دونوں ہاتھوں کے نیچے میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھو پھر
سجدے کی تسبیح یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى تین یا پانچ مرتبہ کہو۔
پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھوا اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ ☆

پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ اور اسی طرح سجدہ کرو جیسا ابھی بتایا
پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ دونوں سجدوں تک
ایک رکعت پوری ہو گئی۔ ☆

اب دوسری رکعت شروع ہوئی اس میں تعوذ نہیں ہے۔ صرف تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف
پڑھو۔ اسکے بعد کوئی سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو۔ پھر رکوع، قومہ اور دونوں سجدے کر
کے اٹھ جاؤ

اور پہلے شہد یعنی التحیات پڑھو پھر درود شریف پھر دعا پڑھو۔ پھر سلام پھیرو، پہلے
دہنی طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت دہنی طرف اور بائیں طرف منہ موڑ
لو اور کانڈھوں پر نظر رکھو۔ ☆

یہ دور کعت نماز پوری ہو گئی۔ اگر تین یا چار رکعت والی نماز پڑھنا ہو تو دور کعت پر بیٹھ کر
صرف عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک التحیات پڑھو۔ ☆

☆ اس کے بعد فوراً تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور تسمیہ، الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کرو۔

☆ اگر تین رکعت پڑھنا ہو تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعاء پڑھ کر سلام پھیر دو۔
☆ اور اگر چار رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پڑھ کرنے بیٹھو بلکہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور چوتھی رکعت یعنی تسمیہ، الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے بیٹھ جاؤ اور التحیات پھر درود شریف اور دعاء پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دو۔

مسئلہ:

فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیت نہ پڑھو بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ۔ ہاں فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ:

اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثناء کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔
تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت صرف امام پڑھے گا، اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے کھڑے رہو، ہاں رکوع، سجدہ کی تسبیح اور التحیات و درود شریف اور اسکے بعد والی دعاء امام کے پیچھے بھی پڑھو۔

مسئلہ:

کوئ اس طرح کرنا چاہئے کہ کمراور سربراہ رہیں یعنی سرنہ کمر سے اوپر ہے اور نہ نیچا ہو جائے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھنٹوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے کپڑا لیا جائے۔

مسئلہ:

مسجدہ اس طرح کرنا چاہئے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر اس طرح رہیں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی اور آپس میں ملی رہیں اور سب کارخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور کہیاں اور کلائیاں زمین سے اوپر چیزیں۔ پیٹ رانوں سے اور دونوں کہیاں پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی رہیں کہ ان کے سر قبلہ رخ ہو جائیں۔

مسئلہ:

کوئ سے اٹھتے وقت امام صرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَہ کہے اور جو شخص امام کے پیچے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف ربنا لَکَ الْحَمْدُ کہے اور جو تہنماز پڑھے وہ ان دونوں کو کہے۔

مسئلہ:

دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات، درود شریف پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھو۔ دونوں گھٹنے قبلہ کی طرف رہیں۔ داہنے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ دوتاکہ قبلہ رخ ہو جائیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھو کہ انگلیاں سیدھی رہیں۔

مسئلہ:

التحیات پڑھتے وقت اشہدُ انْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور نیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنالا اور چھنگلیا اور اسکے پاس والی انگلی کو بند کرو۔ پھر کلمہ (شہادت) کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو۔ جب لَا إِلَهَ كَهُو تَأْنِي اٹھا دا اور جب إِلَّا اللَّهُ كَهُو تو اسے جھکا دا اور سلام پھیرنے تک اسی طرح انگوٹھے اور نیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے رکھوا اور دو انگلیاں جیسے موڑی ہوئی ہیں مڑی رکھو۔ سلام پھیر کر حلقہ توڑ دو۔

مسئلہ:

مغرب و عشاء کی اول کی دور کعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کیلئے الحمد شریف اور اسکے بعد سورت زور سے پڑھنا واجب ہے۔

﴿مردا اور عورت کی نماز میں فرق﴾

عورتوں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا لیکن چند چیزوں میں مردا اور عورت کی نماز میں فرق ہے وہ نیچے لکھی جاتی ہیں۔

☆

مکبیر تحریم کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہئے۔
اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہئے۔

☆

مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھی کا حلقہ بنائے کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور

باتی تین انگلیوں کو باسیں کلائی پر بچھا دینا چاہئے اور عورتوں کو دہنی ہتھیلی باسیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہئے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنانے کر باسیں ہاتھ کونہ پکڑنا چاہئے۔

مردوں کو روکوں میں اچھی طرح جھکنا چاہئے کہ سراور پشت برابر ہو جائیں اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہئے کہ جس سے انکے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

مردوں کو روکوں میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہئے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کئے ہوئے ملا کر رکھنا چاہے۔

مردوں کو حالت روکوں میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہئیں اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہئیں۔

مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدار کھنا چاہئے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہئے۔

سجدے میں مردوں کی کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔

مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہئیں مگر عورتیں دونوں پاؤں دہنی طرف کو نکال دیں۔

مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں باسیں پاؤں پر بیٹھنا چاہئے اور دامنے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہئے اور عورتوں کو دونوں پاؤں دہنی طرف نکال کر بیٹھنا چاہے۔





عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرأت کرنے کا اختیار نہیں بلکہ وہ ہر وقت آہستہ
آواز سے قرأت کریں اور مردوں کیلئے بعض حالات میں زور سے قرأت پڑھنا
واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے۔

﴿نمازو تر پڑھنے کا طریقہ﴾

نمازو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دور کعینیں پڑھ کر بیٹھ جائے اور عبُدُه وَرَسُولُه تک
التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ پھر تیسرا رکعت میں الحمد اور سورت سے فارغ ہو کر اللہُ أَكْبَرُ
کہتا ہوا کانوں تک اٹھائے اور پھر قاعدے کے مطابق ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے۔ اسکے
بعد رکوع میں جائے اور باقی نمازو پوری کرو۔ دعائے قنوت یہ ہے۔

﴿دعائے قنوت﴾

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشَرِّعُ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ . وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلُعُ وَنَتَرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ . اللَّهُمَّ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشِي
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ .

اہی! ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر
بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیری اشکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری

نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور جھپٹتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بیشک تیر اعذاب کا فروں کو پہنچنے والا ہے۔

حدیث:

فرمایا رسول اکرم ﷺ نے کہ جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تین بار یوں ہی فرمایا۔ لہذا وتر نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔

﴿نماز کے فرائض، واجبات، سنن و مکروہات﴾

فرائض نماز:

نماز کے چودہ فرض ہیں جن میں سے چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے اور انکو نماز کے شرائط بھی کہا جاتا ہے اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز ہیں سب کی فہرست یہ ہے۔

- ۱۔ بدن کا پاک ہونا۔
- ۲۔ کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا۔
- ۳۔ ستر یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا فرض ہے۔

- ۱۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔
- ۲۔ نماز کا وقت ہونا۔
- ۳۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا۔
- ۴۔ نماز کی نیت کرنا، یہ سب شرائط ہیں۔
- ۵۔ تکبیر تحریک۔
- ۶۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔
- ۷۔ قرأت یعنی ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔
- ۸۔ رکوع کرنا۔
- ۹۔ سجده کرنا۔
- ۱۰۔ قعدہ اخیرہ (قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ جس قعدہ میں سلام پھیرتے ہیں وہ قعدہ اخیرہ ہے)
- ۱۱۔ اپنے ارادہ سے نماز ختم کرنا۔
- (اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان کریا بھول کر رہ جائے تو نمازنہ ہو گی دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا)

واجبات نماز: ذیل کی چیزیں نماز میں واجب ہیں۔

- ۱۔ الحمد شریف پڑھنا۔
- ۲۔ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا۔
- ۳۔ فرضوں کی پہلی دور رکعتوں میں قرآن کرنا۔
- ۴۔ الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا۔
- ۵۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔
- ۶۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔
- ۷۔ پہلا قعدہ کرنا۔
- ۸۔ التحیات پڑھنا۔
- ۹۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔
- ۱۰۔ ظہر و عصر میں قرآن آہستہ پڑھنا۔
- ۱۱۔ امام کیلئے مغرب و عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں اور فجر و عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرآن بلند آواز سے پڑھنا۔
- ۱۲۔ وتر میں دعائے قوت پڑھنا۔
- ۱۳۔ دعائے قوت سے پہلے تکبیر کہنا۔
- ۱۴۔ عیدین میں چھڑا ند تکبیریں کہنا۔

واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گا جس کا بیان آنے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور قصد اچھوڑ دینے سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہوتی ہے۔

مفسدات نماز:

ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ خواہ قصد اچھوٹ جائیں یا بھول کر۔

- ۱۔ بات کرنا خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت، قصد اہو یا بھول کر۔
- ۲۔ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔
- ۳۔ چھینکنے والے کے جواب میں یَرْ حَمْكَ اللَّهِ کہنا۔
- ۴۔ رنج کی خبر سن کر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پورا یا تھوڑا سا پڑھنا یا اچھی خبر سن کر الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا یا عجیب خبر سن کر سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا۔
- ۵۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ، اوہ یا اف کرنا۔
- ۶۔ اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا۔
- ۷۔ قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا۔
- ۸۔ پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی ہے)۔

- ۹۔ عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا مثلاً ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔
- ۱۰۔ قصد آیا بھول کر کچھ کھانا پینا۔
- ۱۱۔ قبلہ سے سینے کا پھر جانا۔
- ۱۲۔ دردیا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائیں۔
- ۱۳۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے۔
- ۱۴۔ امام سے آگے بڑھ جانا۔
- (یہ چند مفسدات لکھ دیئے ہیں بڑی کتابوں میں اور بھی لکھے ہیں)

نماز کی سنتیں:

- یہ چیزیں نماز میں سنت ہیں۔
- ۱۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا۔
- ۲۔ مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا۔
- ۳۔ شایعیٰ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ آخِرَتْكَ پڑھنا۔
- ۴۔ أَعُوذُ بِاللَّهِ (پوری) پڑھنا۔
- ۵۔ بِسْمِ اللَّهِ (پوری) پڑھنا۔

- ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا۔ ۶۔
- رکوع سے اٹھتے ہوئے سَمْعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا۔ ۷۔
- رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ کم سے کم تین مرتبہ کہنا۔ ۸۔
- سجدہ میں کم سے کم تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى کہنا۔ ۹۔
- دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات کیلئے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر کوہبوں پر بیٹھنا۔ ۱۰۔
- درود شریف پڑھنا۔ ۱۱۔
- درود کے بعد دعاء پڑھنا۔ ۱۲۔
- سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا۔ ۱۳۔
- سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں اور نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا۔ اور اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جددھر امام ہواں سلام میں اسکی نیت کر لیوے۔ ۱۴۔

نماز کے مستحبات:

- ۱۔ اگر چادر اور ڑڑھے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لئے مردوں کو چادر سے ہاتھ نکالنا۔

- ۱- جہاں تک ممکن ہو کھانی کو روکنا۔
- ۲- جماں آئے تو منہ بند کرنا۔
- ۳- کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ اور کوع میں قدموں پر اور سجدہ میں ناک پر اور بیٹھے ہوئے گود میں اور سلام کے وقت کا ندھوں پر نظر رکھنا۔

مکروہات نماز:

- یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔
- ۱- کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔
- ۲- آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا۔
- ۳- کپڑا سمیٹنا۔
- ۴- جسم یا کپڑے سے کھلنا۔
- ۵- انگلیاں چھینانا۔
- ۶- دائیں یا بائیں میں گردن موڑنا۔
- ۷- مرد کو جوڑا گوندھ کر نماز میں پڑھنا۔
- ۸- انگڑائی لینا۔
- ۹- کتے کی طرح بیٹھنا۔
- ۱۰- مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا۔

- ۱۱۔ سجدے میں (مردوں کیلئے) پیٹ کور انوں سے ملانا۔
- ۱۲۔ بغیر غدر کے چار زانوں (آلتی پالتی مار کر) بیٹھنا۔
- ۱۳۔ امام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا۔
- ۱۴۔ صاف سے علیحدہ تنہا کھڑا ہونا۔
- ۱۵۔ سامنے یا سر پر تصویر ہونا۔
- ۱۶۔ تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا۔
- ۱۷۔ کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا۔
- ۱۸۔ پیشتاب یا پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔
- ۱۹۔ سر کھول کر نماز پڑھنا۔ یہ کراہت کا حکم مردوں کا ہے۔ عورت سر کھول کر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔
- ۲۰۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔

سجدہ سہو

کسی واجب کے چھوٹ جانے یا واجب یا فرض میں تاخیر یعنی دیر ہو جانے یا کسی فرض کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پہلے کر دینے یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور اس سے بھول کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر قصد ایسا کرے تو سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا بلکہ نماز کا دہرانا لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اسکی تلافی سجدہ سہو سے نہ ہوگی۔

﴿نماز قصر﴾

جو شخص ۲۸ میل کے سفر کی نیت سے اپنے شہر یا قصبه یا بستی سے نکل جائے اسکے لئے واپس آنے تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز چار رکعت کے بجائے دور کعت رہ جاتی ہے، ہاں اگر سفر میں کسی جگہ ۱۵ روز یا اس سے زیادہ ٹھہر نے کی نیت کر لے تو پوری چار رکعتیں پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ ۲۸ میل کا سفر خواہ پیدل کرے خواہ ریل سے خواہ ہوائی جہاز سے خواہ اور کسی سواری سے سب کا یہی حکم ہے جو اور پر ذکر ہوا۔

نیت نماز قصر:

نیت کرتا ہوں دور کعت نماز قصر کی وقت ظہر (یا عصر یا عشاء) کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبیر۔

مسئلہ:

قصر صرف ظہر، عصر یا عشاء کے فرضوں میں ہے مغرب اور فجر میں نہیں۔ اور فرضوں کے علاوہ اور کسی نماز میں بھی قصر نہیں ہے۔

مسئلہ:

مسافر آدمی اگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جس کیلئے قصر جائز نہیں تو مسافر کو بھی اسکے ساتھ پوری نماز پڑھنی ہوگی۔

﴿عیدِین کا بیان﴾

عیدِین کے احکامات:

- ۱۔ غسل کرنا۔
- ۲۔ مسواک کرنا۔
- ۳۔ اپنے پاس جو کپڑے موجود ہوں ان میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا مگر مردار لڑ کے ریشم کے کپڑے نہ پہنیں۔
- ۴۔ خوشبو لگانا۔
- ۵۔ عیدگاہ میں جو آبادی سے دور ہو عیدِین کی نماز پڑھنا۔
- ۶۔ عیدگاہ پیدل جانا۔
- ۷۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرا راستے سے واپس آنا۔
- ۸۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا۔ گھر آ کر پڑھنے تو کوئی حرج نہیں۔
- ۹۔ نماز عید الفطر سے پہلے بھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا۔
- ۱۰۔ اگر صدقہ فطر واجب ہو تو اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا۔
- ۱۱۔ عید الاضحی ہو تو نماز کے بعد جلد سے جلد قربانی کرنا اور بہتر ہے کہ اس دن قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھائے۔

نماز عیدین کا طریقہ:

- ☆ (نیت) نیت کرتا ہوں میں دور گعت نماز واجب عید الفطر (یا عید الاضحی) کی مع واجب
چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔
- ☆ نیت کے بعد امام و مقتدی کا نوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہیں یہ تکبیر
تحریمہ ہو گئی۔
- ☆ اسکے بعد سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ آخِرَتِكَ پڑھیں۔
- ☆ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کے بعد امام زائد تین تکبیریں کہیں اور مقتدی بھی اسکے ساتھ
تینوں تکبیریں کہتے جائیں زائد تکبیرات میں ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ کے دونوں کا نوں
تک ہاتھ اٹھائیں اور ہر تکبیر کے بعد اتنا توقف کریں کہ تین مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ کہہ
سکیں۔
- ☆ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائیں بلکہ باندھ لیں اور امام اَعُوذُ بِاللَّهِ اَوْ بِسُمِّ اللَّهِ
(آخر تک) پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھئے، مقتدی خاموش کھڑے سنتے
رہیں۔
- ☆ پھر کو عسجدہ کر کے دوسری رکعت میں امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھئے
اسکے بعد تین تکبیریں امام اور مقتدی سب کہیں اور ہر بار کا نوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ
دیں۔

☆ پھر چوتھی تکبیر ہاتھ اٹھائے بغیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور روزانہ کی طرح باقی نماز پوری کریں۔

مسئلہ:

نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ مردوں پر واجب ہے اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ہاں اگر شرعی سفر میں ہوں جس کا بیان نماز قصر کے بیان میں گذراتا تو ان نمازوں میں شرکت نہ کرنے کی اجازت ہے۔

مسئلہ:

بہت سے لوگ عیدین کے دن خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں یا خطبہ کے وقت بیٹھتے تو ہیں مگر باتیں کرتے رہتے ہیں یہ سب خلاف شرع ہے۔

تکبیر تشریق:

عید الفطر کی نماز کو جاتے ہوئے راستہ میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جاتے ہوئے بآواز بلند تکبیر تشریق کہتے جائیں تکبیر تشریق یہ ہے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کیلئے حمد ہے۔

مسئلہ:

بقر عید کی نویں تاریخ کی نماز فجر سے لے کر تیرھویں تاریخ تک عصر تک ہر فرض نماز کے بعد آواز بلند ایک بار تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ امام بھول جائے تو مقتدی خود شروع کر دیں اس کا انتظار نہ کریں۔

مسئلہ:

عورت اس تکبیر کو آہستہ آواز سے پڑھے۔

﴿ سجدہ تلاوت ﴾

قرآن شریف میں چودہ مقام ایسے ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ ان جگہوں پر قرآن شریف میں حاشیہ پر ”السجدہ“ لکھا ہوا ہے۔ لیکن سترھویں پارہ کے آخر میں جہاں ”السجدہ“ لکھا ہے حلقی مذہب میں وہاں سجدہ نہیں ہے اور یہ جگہ چودہ کے علاوہ ہے۔

مسئلہ:

تلاوت کرتے ہوئے جس وقت سجدہ کی آیت تلاوت کرے اسی وقت سجدہ کر لینا چاہئے۔ اگر کسی وجہ اس وقت سجدہ نہیں کیا تو معاف نہیں ہو ابعد میں ضرور کر لیوے۔ سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے اور جو سجدہ کی آیت سننے اس پر بھی۔

مسئلہ:

سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہو ایک سجدہ کرے اور پھر تکبیر کہتا ہو اٹھ کھڑا ہو یہ تو افضل طریقہ ہے لیکن اگر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ میں چلا گیا اور سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تب بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ تلاوت کا صرف ایک ہی سجدہ کیا جاتا ہے نماز کی طرح دو سجدے نہیں ہوتے۔

مسئلہ:

اگر کسی نے سجدہ کی ایک آیت کو ایک ہی مجلس میں دو مرتبہ یاد سے زیادہ مرتبہ پڑھایا سناؤ ایک سجدہ واجب ہو گا۔

مسئلہ:

سجدہ تلاوت کی ادا یعنی کیلئے بدن، کپڑا، جگہ کا پاک ہونا، ستر ڈھانکنا، قبلہ رخ ہونا، سجدہ ادا کرنے کی نیت کرنا، باوضو ہونا شرط ہے۔

مسئلہ:

تلاوت کرتے کرتے سجدہ کی آیت چھوڑ جانا مکروہ ہے۔

مسئلہ:

تلاوت کرنے والا اگر سجدہ کی آیت کو آہستہ پڑھ دیوے تاکہ حاضرین تک آواز نہ پہنچ تو یہ مستحب ہے لیکن تراویح میں امام آیت سجدہ بھی زور سے پڑھے اور سب اس کے ساتھ سجدہ کریں۔

﴿ تراویح کا بیان ﴾

مسئلہ:

ماہ رمضان میں مردوں اور عورتوں کیلئے بیس رکعت تراویح بعد نماز عشاء ادا کرنا سنت
موکدہ ہے۔

حدیث:

ارشاد فرمایا نبی کریم ﷺ نے کہ جس نے رمضان (کی راتوں) میں قیام کیا اسکے
پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔

مسئلہ:

مردوں کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنا سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر تمام اہل محلہ الگ
الگ تراویح پڑھ لیں گے اور جماعت بالکل نہ ہوگی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر باجماعت
ادا ہو رہی ہے اور کسی نے تنہا پڑھ لی تو یہ شخص گناہ گار قونہ ہو گا مگر فضیلت جماعت سے محروم ہو گا۔

مسئلہ:

نماز تراویح بیس رکعت دس سلاموں کے ساتھ ادا کریں اور ہر چار رکعت کے بعد
تحوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔

مسئلہ:

رمضان شریف کے پورے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن شریف تراویح میں ختم کرنا سنت

ہے۔

مسئلہ:

نابالغ کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔

مسئلہ:

بعض جگہ تراویح میں قرآن شریف ۱۵۔ ۲۰ دن میں یا اس کے بعد مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے بعد نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں یہ غلط ہے۔ کیونکہ قرآن شریف ختم کرنا مستقل ثواب کی چیز ہے اور پورے مہینے تراویح پڑھنا علیحدہ مستقل سنت ہے۔

نیت تراویح:

نیت کرتا ہوں میں دور کعت نماز سنت تراویح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ کی

طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔

﴿نماز جنازہ﴾

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ (بلکہ ایک مرد یا ایک عورت بھی) پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس قدر بھی زیادہ آدمی ہوں اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے کیونکہ نہ معلوم کس کی دعا لگ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔

حدیث:

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ جو مسلمان مر جائے پھر کھڑے ہو کر چالیس آدمی اسکے جنازہ کی نماز پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ ضرور ان کی سفارش میت کے حق میں قبول فرمائے گا۔

مسئلہ:

جنازہ کی نماز میں صرف چار تکبیریں اور قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔

طریقہ نماز جنازہ:

☆ طریقہ نماز جنازہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر اس کے سینے کے مقابل امام کھڑا ہو اور نماز جنازہ کی نیت کرے۔

☆ نیت اس طرح ہے۔ نیت کرتا ہوں میں کہ نماز ادا کروں اس جنازہ کی، تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعاء اس میت کیلئے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔

☆ نیت کر کے دونوں ہاتھ میں تکبیر تحریکہ کے کانوں تک اٹھا کر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ

کر مثل عام نمازوں کے ہاتھ باندھیں۔

☆ پھر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہیں اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس تکبیر کے بعد میت کیلئے دعا کریں۔ اگر بالغ مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھیں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيِّتَنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكْرِنَا وَ أُنْشَا۔
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَتْنَاهُ مِنَّا فَاحْيِهْ عَلَى الْإِسْلَامِ。 وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔
اے اللہ! تو ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے حاضروں کو اور ہمارے غائبوں کو اور ہمارے چھپوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اے اللہ! ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ اور ہم میں سے تو جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔

اور اگر میت نا بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشْفَعًا۔
اے اللہ! اس بچے کو تو ہمارے لئے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا اور اس کو ہمارے لئے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا اور سفارش منظور کیا ہوا بنادے۔

اور اگر میت نا بالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطاً وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَعَةً۔
اے اللہ! اس بچی کو تو ہمارے لئے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا اور اس کو ہمارے لئے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش منظور کی ہوئی بنا۔

پھر چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ ☆

مسئلہ:

جنازہ کی نماز میں تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف منہ اٹھانا بے اصل ہے۔

مسئلہ:

اگر جو تے ناپاک ہوں تو ان کو پہن کریا ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا نہ ہو گی۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔

مسئلہ:

جنازہ کی نماز میں مقتدیوں کی تین صفیں کر دینا مستحب ہے۔
الحمد للہ نماز کا بیان ختم ہوا۔ اب چالیس دعائیں لکھی جاتی ہیں ان کو بھی یاد کریں اور موقع کے مطابق پڑھا کریں۔ یہ حضرت رسول ﷺ کی بتائی ہوئی ہیں۔

چالیس حسنون دعائیں

صحح کو یہ پڑھے

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٌ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
اے اللہ تیری ہی قدرت سے ہم صحح کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے ہم شام
کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے ہم جیتے اور مرتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا
ہے۔

سونج نکلے تو یہ پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمًا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بَدْنُوْبِنَا.
سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے آج ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں
ہلاک نہ فرمایا۔

شام کو یہ پڑھے

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٌ وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ.
اے اللہ! ہم تیری ہی قدرت سے شام کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے صحح
کے وقت میں داخل ہوئے اور تیری ہی قدرت سے جیتے اور مرتے ہیں اور مرے پیچھے اٹھ کر
تیری ہی طرف جانا ہے۔

﴿ صحیح اور شام کی ایک خاص دعاء ﴾

حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ہر صحیح و شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کوئی ناگہانی بلانہ پہنچی گی۔ کلمات یہ ہیں۔

**بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ.**

اللہ کے نام سے ہم نے صحیح کی (یا شام کی) جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا جانے والا ہے۔

﴿ سوتے وقت پڑھنے کی چیزیں ﴾

جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لیوے اور اپنا بسر جھاڑ لیوے پھر دنی کروٹ پر لیٹ کر سر کے نیچے داہنہا تھر کر تین بار یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ إِنِّي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ .

اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس روز تو اپنے بندوں کو نجع فرمائے گا۔

﴿يَا يَهٰ پڑھے﴾

اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيٰ.

اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔

اور سوتے وقت یہ بھی پڑھے

سُبْحَانَ اللّٰهِ ۳۳ بار

الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۳۳ بار

اللّٰهُ أَكْبَرُ ۳۳ بار

﴿جَبْ سُوكْرَا طَھَّ تَوْيِيدِ دُعَاءٍ پڑھے﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

سب تعریفیں خدا ہی کیلئے ہیں جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف انٹھ کر جانا ہے۔

﴿بَيْتُ الْخَلَاءِ جَانَےِ كَيْ دُعَاء﴾

جب بیتِ الخلاء جائے تو داخل ہونے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ کہے اور یہ دعا پڑھے

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْجَبَاثِ.

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے مرد ہوں یا عورت۔

﴿ اور جب بیت الْخَلَاء سے نکلے تو یہ پڑھے ﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذْى وَعَافَانِي .

سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے مجھے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا۔

﴿ جب وضو کرنا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

﴿ جب وضو کر کے تو یہ پڑھے ﴾

اَشْهُدُ اَنَّ لَا إِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتُطَهِّرِينَ

ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد ﷺ اسکے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرمادے۔

﴿ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے ﴾

اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

﴿ مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ پڑھے ﴾

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

﴿ جب مسجد سے نکلے تو یہ پڑھے ﴾

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

اے اللہ میں تجوہ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔

﴿ جب اذان کی آواز سنے ﴾

توجہ موزن کہتا جائے وہی کہے اور حَتَّى عَلَى الصَّلُوةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب میں لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے۔

﴿ اور اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھ کر یہ پڑھے ﴾

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْوَةِ الْقَائِمَةِ اتِّمْ مُحَمَّدَنَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

وَابْعُثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

اے اللہ اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد ﷺ کو وسیلہ عطا فرمा (جو جنت کا ایک درجہ ہے) اور انکو فضیلت عطا فرماء اور انکو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بیشک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے۔

(دعا کے یہی الفاظ حدیثوں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس دعاء میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑھے ہوئے مشہور ہیں)۔

﴿فِرْضُ نَمَازٍ كَسْلَامٍ بَهْيِرَ كَرْ سَرٍ پَرْ دَاهْنَا بَاهْتَرَ رَكْ كَرْ يِهٌ پَرْ هَهِ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا إِلٰهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ。 اللّٰهُمَّ اذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ۔
میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبد نہیں (اور) جو رحمٰن و رحیم ہے۔
اے اللہ تو مجھ سے فکر و رنج کو دور کر دے۔

﴿أَوْ تِينَ بَارَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كَهِ اُورِ يِهٌ دَعَاءٍ پَرْ هَهِ﴾

اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھے ہی سے سلامتی مل سکتی ہے تو با برکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے۔

(دعا کے یہی الفاظ حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس دعاء میں کچھ الفاظ لوگوں کے بڑھے ہوئے مشہور ہیں)

﴿ وَتِرْ پڑھ کرتین مرتبہ یہ پڑھے ﴾

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ.

پا کی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی یعنی اللہ کی جو بہت زیادہ پاک ہے۔

تیسری بار بہ آواز بلند کہے اور قُدُّوسُ کی دال کو خوب کھنچے۔

﴿ نَمَاء فَجْرٍ أَوْ نَمَاء مَغْرِبٍ كے بعد ﴾

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے

پہلے اگر سات مرتبہ

اللَّهُمَّ اجْرُنِي مِنَ النَّارِ.

اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ فرمادے۔

تم نے پڑھ لیا تو اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تمہاری دوزخ سے ضرور خلاصی ہو گی۔

﴿ جَبْ كَهْر سے نکلے تو یہ دعاء پڑھے ﴾

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

میں اللہ ہی کا نام لیکر نکلا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ گناہوں سے پھر نے اور عبادت کرنے کی

طااقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

﴿گھر میں داخل ہو تو یہ دعاء پڑھے﴾

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَحْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

اے اللہ میں تجھ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اسکے بعد گھر والوں کو سلام کرے۔

﴿بازار میں جب جائے تو یہ دعاء پڑھے﴾

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجْرَأَهُ أَوْ صَفَقَةً حَاسِرَةً.

میں اللہ کا نام لیکر داخل ہوا۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا معاملہ میں ٹوٹا اٹھاؤں۔

﴿جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے﴾

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ.

میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔

﴿شروع میں بِسُمِ اللَّهِ بھول جانے پر﴾

شروع میں بِسُمِ اللَّهِ کہنا بھول گیا تو یاد آنے پر یہ پڑھے۔

بِسُمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.

میں نے اسکے اول و آخر میں اللہ کا نام لیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بِسُمِ اللَّهِ نہ پڑھی جائے شیطان کو اس میں ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔

﴿جب کھانا کھا چکے تو یہ پڑھے﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔

﴿دو دھپی کر یہ دعاء پڑھے﴾

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْ نَاءِنْهُ.

اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرم۔

﴿جَبْ كُسْتِي كَيْ يِهَا دُعْوَتْ كَهَا تَوْيِي پُرْتِي هَيْ﴾

اللَّهُمَّ أَطِعْمُ مَنْ أَطْعَمْنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي.

اے اللہ جس نے مجھے کھلای تو اسے کھلا اور جس نے مجھے پلای تو اسے پلا۔

﴿جَبْ مِيزْ بَانْ كَهْرِسْ چَلْنِي لَكَ تَوْيِي دُعَاءِ پُرْتِي هَيْ﴾

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

اے اللہ انکے رزق میں برکت دے اور انکو بخش دے اور ان پر حرم فرم۔

﴿جَبْ رُوزْهِ افْطَارِ كَرْتْ تَوْپِرْتِي هَيْ﴾

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ.

اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی دینے ہوئے رزق سے روزہ کھولا۔

﴿افْطَارِ كَيْ بُعدِيَهِ پُرْتِي هَيْ﴾

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

پیاس چلی گئی اور گینہ تر ہو گئیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ثواب ثابت ہو چکا۔

﴿اَكَرْ كُسْتِي كَيْ يِهَا رُوزْهِ افْطَارِ كَرْتْ تَوْيِي پُرْتِي هَيْ﴾

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلِئَكَةُ.

تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں اور نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔

﴿ جب کپڑا پہنے تو یہ پڑھے ﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ عَيْرِ حَوْلٍ مِنْيٰ وَلَا قُوَّةٍ .

سب تعریف اللہ ہی کیلئے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنا یا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔

﴿ جب نیا کپڑا پہنے تو یہ کہے ﴾

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ أَسْلَكَ خَيْرَهُ وَخَيْرٌ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنا یا میں تجھ سے اس کی بھلانی کا اور اس چیز کی بھلانی کا سوال کرتا ہوں جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے اور میں تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کیلئے یہ بنایا گیا ہے۔

﴿ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ پڑھے ﴾

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خَلْقِيْ .

اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔

﴿ دو لھا کو یوں مبارکبادی دیوے ﴾

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

اللہ تجھے برکت دیوے اور تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے۔

﴿ شب قدر میں یوں دعاء مانگے ﴾

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معافی کو پسند فرماتا ہے لہذا مجھے معاف فرمادے۔

﴿ جب نیا چاند لیکھے تو یہ پڑھے ﴾

اللَّهُمَّ أَهِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْأَيْمَانِ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ وَالْتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ

وَتَرَاضِي رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ.

اے اللہ سے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ جن سے تو راضی ہے اسے نکال کر۔ اے چاند میرا اور تیر ارب اللہ ہے۔

﴿ کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یوں دعا دیوے ﴾

أَضْحِكْ اللَّهُ سِنَنَكَ.

اللہ تجھے ہنساتار ہے۔

﴿ کسی مريض مسلمان کی عيادت کو جائے تو یوں تسلی دے ﴾

لَابَاسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

پچھڈا نہیں ان شاء اللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔

﴿ جب سواری پر بیٹھ جائے تو یہ پڑھے ﴾

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور ہم (اس کی قدرت کے بغیر) اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور جانا ہے۔

﴿ کسی منزل (ریلوے اسٹیشن بس اسٹاپ) پر اترے تو ﴾

تو یہ پڑھے

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

اللہ کے پورے کلموں کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔

﴿ جب قبرستان میں جائے تو یہ پڑھے ﴾

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ.

اے قبروں والو! تم پر سلام ہو ہم کو اور تم کو اللہ بخشنے۔ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں۔

تَمَثُ بِالْخَيْرِ



وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ.